

نے انعام کیا جن پر تیرا غضب نہیں کیا گیا جو گمراہ نہیں ہوئے۔

All the Praises be to Allah, The Creator of the Universe. The most Beneficent, The most Merciful. The Owner of the Day of Judgement. You (Allah) alone we worship and You (Allah) alone we ask for help. Show us the Straight path, the path of those who You (Allah) acknowledged. Not of those who invited Your (Allah) anger and not of those who went astray

سورۃ الاخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو جنم اور نہ ہو کسی سے جنا گیا ہے۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

Say, He is Allah, the One. Allah is All Independent. Neither He begot anyone nor He was begotten. And none is equal to Him in any way.

تکبیر اللَّهُ أَكْبَرُ اللہ سب سے بڑا ہے Allah is the Greatest

رکوع سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝

پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے

Glory be to my Nourisher, the Most Great, Glory be to my Nourisher, the Most Great, Glory be to my Nourisher, the Most Great

تسمیع سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۝ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۝

اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب سب تعریفیں صرف تیرے ہی لئے ہیں